

Вот несколько ободряющих библейских стихов и фраз на языке урду, которые вы можете использовать в своем письме.

Иов 13:15

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его!

ایوب 13: 15 دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا۔ میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہر حال میں اپنی راہوں کی تائید اُس کے حضور کروں گا۔

Псалтирь 22:4

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.

زبور 23: 4 بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گذر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔

Псалтирь 36:3

Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.

زبور 37: 3 خُداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ مُلک میں آباد رہ اور اُس کی وفاداری سے پرورش پا۔

Псалтирь 36:4

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.

زبور 37: 4 خُداوند میں مسزور رہ اور وہ تیرے دل کی مُرادیں پوری کرے گا۔

Псалтирь 36:5

Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит.

زبور 37: 5 اپنی راہ خُداوند پر چھوڑ دے اور اُس پر توکل کر۔ وُبی سب کُچھ کرے گا۔

Псалтирь 36:7

Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

Псалтирь 39:9

Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.

زبور 40: 8 اے میرے خُدا! میری خُوشی تیری مرضی پُوری کرنے میں ہے بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔

Притчи 3:5

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.

المثل 3: 5 سارے دل سے خُداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔

Иоанна 14:1

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте.

یوحنا 14: 1 تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم خُدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔

Филиппийцам 1:21

Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение.

فلپیوں 1: 21 کیونکہ زندہ رہنا میرے لئے مسیح ہے اور مرنا نفع۔

Римлянам 8:18

Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.

رومیوں 8: 18 کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔

Римлянам 8:28

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его²⁸ изволению, все содействует ко благу.

رومیوں 8: 28 اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خُدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خُدا کے ارادہ کے موافق بُلانے گئے۔

Римлянам 8:35

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?

رومیوں 8: 35 کون ہم کو مسیح کی محبت سے جُدا کرے گا؟ مُصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟۔

Римлянам 12:1

Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугдную Богу, для разумного служения вашего.

رومیوں 12: 1 پس اے بھائیو۔ میں خُدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے اِلتماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قُربانی ہونے کے لئے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خُدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔

2 Коринфянам 1:9

Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых.

کرنٹھیو- 1: 2 9: بلکہ اپنے اُپر موت کے حُکم کا یقین کر چُکے تھے تاکہ اپنا بھروسا نہ رکھیں بلکہ خُدا کا جو مُردوں کو جلاتا ہے۔

2 Коринфянам 4:17

Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу.

کرنٹھیو- 4: 2 17: کیونکہ ہماری دَم بھر کی ہلکی سی مُصیبت ہمارے لئے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔

Филиппийцам 1:29

Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него.

فلپپیوں 1: 29: کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اُس پر ایمان لاؤ بلکہ اُس کی خاطر دُکھ بھی سہو۔

Евреям 12:2

Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

عبرانیوں 12: 2 اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اُس خُوشی کے لئے جو اُس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پروا نہ کر کے صلیب کا دُکھ سہا اور خُدا کے تخت کی د بنی طرف جا بیٹھا۔

Иакова 1:2

С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения.

جیمز 1: 2 اے میرے بھائیو! جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو۔ تو اِس کو یہ جان کر کمال خُوشی کی بات سمجھنا

1 Петра 4:12

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного.

پطر- ۱ 4 : 12 اے پیارو! جو مُصیبت کی آگ ٹمہاری آزمائش کے لئے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اُس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔

Иакова 1:12

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

جیمز 1 : 12 مُبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے مُحبّت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔

1 Петра 1:6

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений.

پطر- ۱ 6 : 1 اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو۔ اگرچہ اب چند روز کے لئے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔

1 Петра 4:13

Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

پطر- ۱ 4 : 13 بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو تاکہ اُس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔

Откровение 21:4

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

مکاشفہ 21 : 4 اور وہ اُن کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا۔ نہ آہ و نالہ نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔

Я благодарю Бога за вашу веру в Господе.

جب میں نے یسوع پر آپ کا ایمان کے بارے میں سنا تو میں نے شکرگزاری کی۔

Ваша жизнь отражает Божью милость, которую Он оказал вам.

آپ كى زندگى اس فضل كى عكاسى كرتى هے جو آپ كو عطا كيا گيا هے۔

Слава Богу, что вы используете любую возможность говорить окружающим об Иисусе.

هم آپ كى حوصلہ افزائى كرتے هیں كه آپ يسوع كے بارے ميں دوسروں كو بتانے كا كوئى موقع ضائع نہ كريں۔

Мы любим вас и вашу семью. Мы молимся за вас, вашу семью и также за охранников в тюрьме.

هم آپ اور آپ كے خاندان سے محبت كرتے هیں۔ هم آپ كے خاندان اور آپ كے محافظين كے ليے دعا گو هیں۔

Наши сердца радуются тому, что вы остаетесь сильными в Господе.

آپ كا خداوند پر مضبوط ايمان ركھنے سے ميرى اول مسرور هے۔

Молюсь, чтобы благодаря вашему свидетельству многие пришли к Иисусу.

ميرى دعا هے كه آپ كى گواہى بھتروں كو يسوع كى طرف لائے۔

Благодарю Богу за вашу любовь к Иисусу.

میں يسوع سے آپ كے پيار پر خدا كا شكر گزار هوں۔

Вы подвизались добрым подвигом. Мы молимся, чтобы вы сохранили веру и совершили течение.

آپ اچھى لڑائى لڑ رہے هیں۔ اپنے ايمان كو مضبوط ركھو اور بيدوز بھيتو۔

Пусть ваши гонители увидят Иисуса, глядя на вашу жизнь.

وہ جو آپ كو اذيتیں پہنچارہے هیں۔ آپ كى زندگى ميں يسوع كو ديكھیں۔

Господь счел вас достойным пострадать за Его имя.

اور تم اس كے نام ميں اذيت اٹھا كر جلال پاؤ گے۔

Молюсь о том, чтобы вы чувствовали, что находитесь в Божьих объятиях.

ميرى دعا هے كه آپ كے چوگر خداوند كا حصار هوں۔

Желаю, чтобы вы продолжали взирать на Иисуса, нашу единственную надежду на небесах.

يسوع پر اپنى نجات هیں جمائے ركھو، جو ہمارے ليے بھشت كى واحد اميد هے۔

Молюсь, чтобы вы ощутили присутствие Иисуса.

میں دعا گو ہوں كه آپ آج عيسى يسوع كى موجودگى كو محسوس كريں۔

Господь – Пастырь ваш и всегда будет с вами.

خداوند آپ كا اچھا چرواہا هے۔ وہ آپ كے ساتھ هوكا۔

Сейчас время жатвы. Молюсь, чтобы вы пожали множество плодов.

فصل کلیان میں کتنے کے لیے تیار ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ بہت سا پھل سمیٹو۔

Блаженны вы в очах Господа.

آپ خداوند کی نظر میں مبارک ہیں۔

Благодарю Бога за вашу верность.

میں آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔

Пусть Иисус направляет ваши шаги к жизни вечной.

ابدی زندگی پانے کے لئے یسوع کو اپنی رہنمائی جاری رکھئے۔

Когда страдает один член, страдает все тело. Много верующих со всего мира стоят за вас в молитве.

جب جسم کا ایک عضو تکلیف اٹھاتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں جلا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں بہت سے مسیحی آپ کے ساتھ ہیں۔

Молюсь, чтобы глаза, уши и сердца ваших притеснителей были открыты для Иисуса.

میں دعا کرتا ہوں کہ جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں ان کی آنکھیں، کان اور دل یسوع کی طرف لگیں۔

Спасибо за ваши страдания ради Христа.

یسوع کے ساتھ اذیتیں اٹھانے کا شکریہ۔

Молюсь за вас, когда вы переносите страдания.

اذیتوں کو برداشت کرنے کے اس عمل میں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔

Пусть ваш свет откроет истину окружающим вас людям.

خدا کرے کہ آپ سے آپ کے کارکردگے مسیحی آشکارا ہوں۔

Ваши нынешние испытания провозглашают о вашей вере.

آپ کی موجودہ اذیتیں آپ کے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں۔

Наш Господь повсюду с вами.

آپ جہاں بھی ہیں ہمارا خداوند آپ کے ساتھ ہے۔

www.vomkorea.com 에서 같은 내용을 찾을 수 있습니다.

©2020 Voice of the Martyrs Korea